

127301- ایک لڑکے کا دوست بے دین ہو کر مر گیا، تو کیا اس پر جنازہ، اور دعا پڑھ سکتا ہے؟

سوال

سوال: میرا ایک دوست کافی دن پہلے فوت ہو گیا جو کہ پیدائشی مسلمان تھا، لیکن اپنے زندگی کے کسی موڑ پر وہ بے دین ہو گیا تھا، اور اسلام کو دین نہیں سمجھتا تھا، اور ہم نے اس سے اس موضوع پر بہت مباحثے بھی کئے، لیکن وہ ظاہری طور پر اسی نظریے پر فوت ہوا، تو کیا میرے لئے اس کا جنازہ پڑھنا اور اسکے لئے دعا کرنا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا دوست بے دین ہو گیا تھا، اور وہ اسلام کو دین نہیں سمجھتا تھا، اور ظاہری طور پر وہ اسی پر فوت ہوا ہے، تو جسے اسکی اس حالت کا علم ہے اسکے لئے اسکا جنازہ پڑھنا، یا اسکے لئے دعا مانگنا، اور غسل و تکفین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کر سکتا؛ کیونکہ فرماں باری تعالیٰ ہے:

(يَا كَاذِبِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَأَلَيْسَ لِمَنْ يَشْتَكِيَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِن بَعْدِنَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ) نبی اور ایمان لانے والوں کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین

کیلئے یہ معلوم ہونے کے بعد بھی استغفار کریں کہ وہ جہنمی ہیں، چاہیں وہ قریبی رشتہ

دار ہی کیوں نہ ہوں۔ [التوبہ: 113]

ایسے ہی فرمایا: (وَلَا تُضِلَّنَّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّمَّنْ نَاتِ أَبْرًا وَلَا

تَقْرُبَنَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِثْمًا كَفَرًا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا تَوْأَمَّتُمْ

فَأَشْتُونَ) اور آپ ان میں سے کسی کا کبھی بھی جنازہ مت پڑھیں، اور نہ کسی کی قبر

پر کھڑے ہوں، بلاشبہ انہوں نے اللہ اور اسکے رسول کیساتھ کفر کیا اور وہ اسی فسق پر

مرے۔ [التوبہ: 84]

اور مسلم: (976) کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: (میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کیلئے استغفار کرنے کی اجازت چاہی تو

مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے والدہ کی قبر کی زیارت کیلئے اجازت

مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی)

یہ اس بات کے دلائل ہیں کہ جو شرک یا کفر کی حالت میں فوت ہوا سکے لئے دعا نہیں کی
جاسکتی۔

مزید معلومات کیلئے سوال نمبر: (7869) اور (7867)
کا مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم.